

اکرام اللہ ساجد کیلانی

# روزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُوَ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ كَمَا كُلْتُمُ الْأَذْرِفَ فَلَمْ يَرَكُمْ  
لَعِلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحِلِّ

روزہ کے لئے قرآن مجید، حدیث نبوی اور عزیزی لغت میں لفظ صوم «استعمال ہوا ہے جس کے معنی رک جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں صوم، اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پریٹ اور نفس آمارہ کی شہوت رانی سے باز رہنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«هُوَ الْمَسَافُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالوَقَاعِ يَنْتَهِ خَالِصَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

کہ خالص رہنے کے لیے کیتی گئی نیت سے کھانے پینے اور جامعت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔

قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت یعنی یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے:

«فَالَّذِينَ يَا شَرِودَهُنَّ دَأْتُمُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلَوَادَشِرِيدَ أَحَقُّ يَتَبَيَّنُ لَكُمُ الْخِيطُ الْأَبْيَضُ

من الخيط الأسود من الفجر طَشَّرَتْمَا الصِّيَامَ إِلَى الْلَّيلِ» الآیۃ

یعنی جامعت اور کھانے پینے کی اجازت صبح صادق تک ہے، پھر رات تک روزہ کو پورا کرنا یعنی ان بالتوں سے باز رہنا ہو گا۔

روزہ کی حقیقت:

قرآن مجید میں ہے:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمْوًا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ»

کہ ”اے ایمان والوں پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متفقی بن جاؤ۔“

اس احوال کی تفصیل یہ ہے کہ روزہ تمام عبادات میں سے ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے دیگر اکان ظاہری ہیں۔ مثلاً نماز پر شیدہ نہیں رہ سکتی، مسجد میں نماز کے وقت ایک چمغ غیر جمع ہوتا ہے، بیسوں یا سینکڑوں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں، یہی حال صحیح کا ہے، نکواۃ بھی کم از کم دو آدمیوں پر ظاہر ہوگی، ایک دینے والا اور دوسرا لینے والا، لیکن روزے کا معاملہ ان تمام سے مختلف ہے۔ یہ رات سوائے روزہ دار کے اور اللہ احکم الحاکین کے کوئی درسرانہیں جان سکتے کہ کون روزہ دار ہے اور کون روزہ سے نہیں۔ شدید کرمی میں روزہ داد دن میں کسی مرتبہ کی کرتا ہے۔ اور اگر وہ پانی کے چند قطرے پر گونٹ پیٹ میں آمارنا پاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس فعل سے باز رکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اس حرکت کو فوت کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتا، یہ احساس کہ اللہ سے اس کی کوئی بات، کوئی فعل اور کوئی حرکت پوستیہ نہیں، اسے پانی پینے کی شدید خواہش پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور وہ حکم اللہ کی حکم عدل سے باز رہتا ہے۔ گویا وہ صرف اللہ کے ڈرستے تھے اسی میں پانی نہیں پیتا کمرے میں بند ہو کر کھانا نہیں کھاتا اور نفس کی ہر ایسی خواہش کو سختی سے دبادیتا ہے جو روزہ کی حالت میں اس کے لئے جائز نہیں۔ پس یہی حیثیت الٰی تقویٰ ہے اور روزہ کی وجہ سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے جس میں غیر کی رسائی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”الصوص لم ولانا جذری به۔“

کہ روزہ لاپک ایسی منفرد عبادت ہجھو صرف) میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

روزہ دار کے لئے روزہ میں طور پر فخر سے نے کوڑو پ آفتاب تک حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں تو جو چیزیں اس پر جو شریعہ سے حرام ہیں، ان سے تدوہ بطریق اولیٰ پر سیز کر لیا۔ چنانچہ براں کیوں سے اجتناب کی یہ تربیت اور ٹریننگ روزہ دار کی پوری زندگی کے لئے مشین راہ ثابت ہوگی، جذبات کا جذبہ ختم ہوگا، نفس زیر ہوگا اور روحمانی قویں جاگ اٹھیں گی۔ نتیجھہ حق کی تابعداری اس کے لئے آسان ہو جائیگی اور احکامِ ربانی کی قدر و نہنلت اس کے دل و دماغ میں ٹھہر کر جائیگی۔

اس لحاظ سے روزہ کو محض فاقہ قرار دینا قطعاً غلط ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ السلام کو وہم ہے کہ چونکہ ابتدائی اسلام میں غربت تھی اسی لئے روزے کا حکم دیا گی (لبقہ حاشیہ رضوی اسناد)

میں وہ مسلم کا یہ ارشاد بھی ہمارے پیش نظر ہے:

«لَيْسَ الصُّومُ مِنَ الْأَكْلِ دَلِيلُهُ شَرْبُ الْمَاءِ الصَّوْمُ مِنَ الْمَغْوِرَةِ فَلَا فِتْنَةُ»  
کہ روزہ غصہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ اصل میں پیوودہ اور گندی بالتوں سے پر پیز کا نام روزہ ہے۔

نیز فرمایا:

«مِنْ لَحْيَيْدَعْ تَوْلُ الْزُّورَ وَالْبَهْلَ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةً إِنْ يَمْدُ طَعَامَهُ وَشَرَابَكَ»

کہ جو شفعت غلط بیانی، جہالت کی باتیں اور جعلانہ حکیم (روزہ کی حالت میں) ترک نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تقطعاً اس بات کی ضرورت نہیں کہ رہیسا روزہ دار، اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے: ایکوں نک اس کا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برا بر ہے)

ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کی روشنی میں یہ بات «نَهَرُ مِنَ النَّهَارِ» ہے کہ روزہ کو فاقہ کہنا ہرگز درست نہیں بلکہ یہ ایک مستغل اور منفرد عبادت ہے جس کے اثرات انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی پر مترقب ہوتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں اس کی جزا «عَلَكُمْ تَغْوِيَةُ الْمُجْرِمِينَ» جائز ہے، بیان کی گئی ہے۔ متنقی اور پر سیر گار وہی ہوتا ہے جو معمونات سے پر سیز کرتا، احکام خداوندی کو حرز بیان بناتا اور فرایین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کی اعلیٰ علت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیتا ہے۔ اور شاید روزہ اپنے انہی دوسری تائیج کی بنا پر ایک عالمگیر حیثیت کا حامل رہا ہے۔ تاریخ عالم کے مطابر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج تک جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، روزہ کیسی نزکی صورت میں بہیں موجود رہا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، کتابت ملی اللذین من قبلکم، صاف تبلار ہے ہیں کہ روزہ ام سالتہ فرض رہا ہے۔

روزہ اور رمضان؟ مجمع ابیان میں ہے کہ "سَمِّيَ الرَّمَضَانُ لَا تَنْهَى مِنْ رِمَضَانَ الْذُلُوبُ" یعنی اس

(بَقِيَ عَدَدُهُ صَفَرُهُ كُوْسَهُتَهُ)، حالانکر یہ واقعات کے بالکل خلاف ہے جس سے ہیں روزے فرض ہوئے اور اسی سال جنگ پدر ہوئی، اور جنگ پدر کے بعد مسلمانوں کی حالت روزہ روزہ بہتر ہوتی چلی گئی، فرانچ کے دن آئے گے۔ اگر روزہ کی قرضت کی بنیاد غربت ہوتی تو روزے سے بحرث سے پہلے قرض ہو جانے چاہیں تھے جبکہ مسلمانوں کی حالت استھان تک گدستی کی تھی۔

ماہ کا نام رمضان اس لئے پڑا کہ یہ مہینہ روزہ داروں کے گنہ جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں:

**مُعْتَمِدٌ مَضَانٌ لَا تَنْهَا يُغْرِي فِي الدُّنْوَبِ**

کہ ”گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے کی وجہ سے اس ماہ کو رمضان کہا جاتا ہے“

”رمضان“ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سان پر تیر کے چھالے کو رکھ کر دوسرا سے دو ہے سے گوٹنا، تاکہ پہلا تیز اور سیدھا ہو جائے۔ اسی طرح نفس انسانی کو رمضان کے سان پر رکھ کر روزے کے ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے تاکہ یہ جد باتی شہ پر بلکہ عقل و حکمت میں تیز ہو، سیدھی راہ پر چلنا اس کے لئے آسان ہو، اور اس کا دل نرم پڑ جائے تاکہ ذکرِ خداوندی اثر کر سے چونکا ایسے پرمغزِ معانی کسی اور ماہ کے نام میں نہیں پائے جاتے اور عربی لغت میں ہر چیز کو اس کی اصلیت سے خصوصی مناسبت ہوتی ہے اس لئے میں مناسب تھا کہ روزہ جیسی ریاضتِ نفس ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔

### رمضان اور قرآن :

قرآن مجید اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اور قرآن مجید امرتِ مسلم کے لئے ایک ایسی ہابرکت اور ابدی فتحت ہے کہ الگ پوری امکت نہام عمر شکر گزاری کا موقع ملتا جائے تو جمی شکر یہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکا پرانی کوشش ضروری ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہا اوری کا انہمار روزہ سے کرتے تھے اس لئے ضروری ہوا کہ ماہِ رمضان میں روزے رکھے جائیں تاکہ اس فہمتِ عظیمی کے حصول پر زیادہ سے زیادہ انہمارِ شکر کیا جائے چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبُشِّرَتِ مِنَ الْأَهْلِيَّاتِ وَالْفَرِيقَاتِ

فَنِ شَهْدَ مِنْكُمُ الشَّهْدُ فَلِيَحْمِمَهُ

کہ ”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جس میں لوگوں کے لئے ہدایت، دلائل اور معجزے ہیں۔ لہذا (اس نعمت کا) شکر یہ اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے“

### احکام و مسائل

#### مشکوک دن کا روزہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غباریا بادل ہو تو مشکوک دن کا روزہ نہ رکھو بلکہ شعبان کے تین

دن پورے کرو۔ (تفقیع علیہ)

روایت ہلال :

رمضان المبارک کے چاند کے لئے ایک اور عید کیلئے دو مسلمان متبوع شریعت کی شہادت ہوں فی چاہیئے والبودارہ  
ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ)

ضروری وضاحت :

اسلامی تقریبات قمری مہینوں پر مختصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهْوَرِ عِنْدَ اللَّهِ أَشْتَأْنَشَرَ سَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يُؤْمِنُ خَلَقُ النَّاسِ مِنْهَا  
أَنْ يَعْتَدُ حِرَمَةً ۔

کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے جن سے چار حرمت کے ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حرمت کے چار ماہ صرف قمری ہیں شمسی نہیں۔ تیز شمسی مہینوں کا خود ساختہ حساب اسلام ایسے ہالیگر مذکور کے ساققوں نہیں مل سکتے۔ شہروں کے پڑھے لکھے لوگ تو وہ ایسا بھی لکھنے ہیں اور شمسی یا قمری تقویم کا حساب بھی لگاسکتے ہیں، لیکن دیباں توں، جنگلوں اور پہاڑوں میں یعنی والا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی کے لئے یہی آسان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا یا عید منالی اور یہ بات ویسے بھی اسلام کی روح "الْجَنَاحُ دُبُرُهُ"  
کے میں مطابق ہے جس پر ہر کس دن اسکی عمل کر سکتا ہے کیونکہ یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں یا شہر میں یعنی والا کا درین نہیں بلکہ تمام بني تورع انسان کا درین ہے جو مسائل میں عالم سے زیادہ جاہل اور طاقت در سے زیادہ کمزور کا لحاظ رکھتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ ترقی یافتہ دریں بھی مکٹریوں اور ڈائریوں کے اس قدر عام ہو جانے کے باوجود  
ہمارے دیہات کے یعنی والے لوگوں اور بڑے بڑے صوون کو ستاروں سے وفت اور چاند سے تاریخیں معلوم کرنے  
ہیں زیادہ آسانی ہے۔ لہذا یہی مناسب تھا کہ روزوں کا حساب بھی قمری مہینوں کے حساب سے ہی رکھا جاتا۔  
لہذا اس کے لئے اسلام نے روایت ہلال (بصری) کا اعتبار کیا ہے۔

علاوہ ازیں شمسی مہینوں کا حساب یوں بھی بھجن کا باعث ہوتا کہ بعض علاقوں کے جمیش سردوں میں روز سے رکھتے اور بعض علاقوں کے لوگ جمیش گریوں میں، مثلاً ہمارے ہاں نوبر دسمبر جمیش سردوں میں آتے ہیں اور جون جولائی جمیش کرمیوں میں، ارجمند ہمارے ہاں براعظم ایشیا میں سردوی ہوتی ہے تو جزوی امریکی، آسٹریلیا اور جنوبی افریقیہ کے نکروں میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں مساوات قائم نہ رہتی۔ اور یہ بات اللہ ارحم الراحمین کی رحمت سے بعید ہے کہ اپنے بعض بندوں کو اتنہائی آسانی بخشے اور بعض کو اتناہائی مشقت بیں ڈالے۔

چاند دیکھنے کی دعا

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے :

”اللّٰهُمَّ اهْلِلَّةَ عَلَيْنَا بِالاَمْنِ وَالْاِيمَانِ وَالسَّلَامَةَ وَالْاَسْلَامَ بِالْاَهْلِلَةِ“ (رمذب اللہ ﷺ رتمذی)

روزہ کی نیت :

روزہ عبادت ہے اور ہر عبادت کے لئے نیت ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ کی نیت قبل فجر نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ (رمذبی، ابن ماجہ، نسائی، دارمی، ابن حزم، ابن حبان، دارقطنی)

تربائی نیت بدعت ہے :

نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت بدعت ہے۔ آج کل جو الفاظ "دینوم غدنیت من شهر رمضان" نیت روزہ کے لئے مردوج ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔

سحری کا وقت :

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز (اذان) میں پچاس آیات پڑھنے کا رفہہ ہوتا تھا۔ (رجباری)

سحری کا نامہ اور رباعیت برکت ہے :

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

”تسحروا فاثن في السحور باركتم“

کہ ”سحری ضرور کھاؤ، اس میں برکت ہے۔“ (بخاری، مسلم)

کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا :

- ۱۔ بھول کر کھانا پینا
- ۲۔ خوشبو اور سرفہ لگانا
- ۳۔ مسوک کرنا
- ۴۔ سرا اور بدن پر تبل لگانا
- ۵۔ آنکھ، ناک یا کان میں دوال ڈالنا، پچھنے گلوانا بشرطیکہ کمزوری کا ذر شہر۔
- ۶۔ ہستی یا کانک چکھ کر فریٹ اخنوک دینا۔
- ۷۔ روزہ رکھ کر صبح صادق کے بعد غسل جنابت کرنا
- ۸۔ اخلاق مہونا

۹۔ گرد و بخار، مکھی پھیپھی کا حلقوں میں از جانا۔ تالاب وغیرہ میں غوطہ لگانا جس سے پانی ناک یا حلقوں کے ذریعے اندر

چلاند جائے۔

۱۔ ناک میں بخیر مبارفہ پانی ڈالنا۔

۲۔ مسوٹھے کے خون، یا کل کے بعد پانی کی تری کایا دانت میں غیر محسوس ریزوں کا تھوک کے ساتھ اندر پلے جانا۔

۳۔ بیوی کا بوس لینا یا محض ہجنار ہوتا مگر جوان کو اس سے پر بیز کا حکم دیا گی ہے۔ (۱۲) تے آنا جن چیز دل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

۱۔ دالستہ کھانا پینا

۲۔ جماع کرنا

۳۔ خود قئے کرنا

۴۔ نسوار لینا

۵۔ حقہ سگریٹ پینا

۶۔ ناکس میں پانی یا دوا مبالغہ سے پڑھانا کہ حلق کے

۷۔ چنپی، خبیث کرنا (اس سے مرد تحدیر ہے)

۸۔ اند اتر جائے۔

## کفارہ

بل عذر شرعی روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلم روڈ سے رکھے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ساخٹ ملکینوں کو (بیک وقت) کھانا کھائے۔ (بخاری)

افطار میں جلدی:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَذَّالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا إِلَّا فَطَرَ

کہ ”جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں جملائی میں رہیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

افطاری کس چیز سے منع ہے؟

حضرت انسؑ فرماتے ہیں،

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازِ مغرب سے قبل تکھروں سے روزہ افطار فرماتے ہی نہ ہوتیں تو خشک سے اور یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔

افطاری کی دھارا:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى بَرَزَقِكَ أَفْطُوتُ

ترجمہ: اے اللہ! میں نے تیر سے لئے روزہ رکھا اور تیر سے ہی دیئے سے افطار کیا۔

آخر کل جو اس دعائیں عبک آمنت دعیلہ تو کلت، کا اضافہ ہے اسے غلط ہے، کسی حدیث

میں یہ الفاظ مسجد فہیں۔

۴۔ «ذهب الظمة وابتلى العرق دبتت الا جراث شاعر اللہ» (البرداوی)

ترجمہ: پیاس من بھگد گئی، رگیں آسودہ ہو گئیں اور ان شمار اللہ اجراث ناہت ہو گیا۔

قرآن مجید

مریض اور مسافر: مریض اور مسافر کر دو راں سفر و مرض روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضا دینی ہو گی۔

شیخ فانی:

اگر کسی میرد اور عورت پر ایسا بڑھا پا آگیلے ہے کہ اب طاتور اور تند رست ہونے کی توقع نہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کریں۔ لئے (قرآن مجید)

حاملہ اور مرضعہ:

a۔ حاملہ اور مرضعہ کو اگر خوف ہو کہ روزہ سے پچھے کو نقمان پہنچنے گا تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ (البرداوی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

b۔ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اگر ملکن ہو تو بعد میں قضائی بھی دے (ابن کثیر)

## فضائل روزہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بہت سے فضائل احادیث میں منتقل ہیں۔ چند احادیث درج ذیل ہیں۔

گنگوں کی معافی:

صحیحین میں حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«من صام ره مختان ایمانا و احتسابا غرور کے مالققدم من ذنبہ» ہیں؟

کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نیکی کے شوق سے روزہ رکھے اس کے پیہنے گنہ معاف کردیجئے جاتے جنت میں داخل ہے لیکن خاص دروازہ:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے:

«فی الجنة شاسبة البراب منها ما پیسمی المثیان لا يیدخله إلا الصالحون»

کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام «تیان» ہے جس سے صرف روزہ داری

داخل ہوں گے۔"

صحیعین میں حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوٰ تواریخ دامتہ ہے :

"ابن آدم کے تمام عمل وسیں گن سے سات سو گن تک شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر روزہ، کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا خداوندگریم سے ملاتات کے وقت، روزہ در کے منزہ کی بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کشتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ ڈھالنے سے، تو جیب کسی کارروزہ ہوتا نہ عذرتوں سے میل ملپ کرے اور نہ ہی شورچائے، اگر کوئی کالی دے یا جھگڑے کے نزدیک ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔"

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے لیکن اسے پھاڑ نہ دے، پوچھا گی، یا رسول اللہ پھاڑنا کیسا؟ فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے! (رجوع الفراز)

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں:

"روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں، روزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کھاتے اور پینے سے روکا ہے، میری سفارش قبول فرایاں اور قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا ہے، میری سفارش مان لیں، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرماتے ہیں" (ربیعی شعبہ الیمان روزہ سے معرفتِ الہی پیدا ہوتی ہے:

روزہ کی تین سیٹھیں ہیں، پہلی یہ کہ انسان کھانے پینے سے پرہیز کرے، دوسرا یہ ہے کہ روزہ ہر قسم کے گن ہوں سنبھے اور تیسرا اور آخری سیٹھ یہ ہے کہ دنیادی، پرانگندہ خیالات سے منمود کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔

چنانچہ ملا محدث محدث بن احمد المکح المتنوی ۵۸۰ حدیث ہے:

"روزے کی معمونی جیشیت یہ ہے کہ انسان، پیٹ، شرم گاہ اور عضوی خداہش کو دبائے، اس کی خصوصی صورت یہ ہے کہ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بلکہ تمام اعضا کو گن ہوں سے روکے لیکن اس کی آخری سیٹھ یہ ہے کہ روزے دار خداوند تعالیٰ اسے خافل کر دینے والی ہرشے سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رُخ کر لے، اسی پیدا شدہ صورت سے معرفتِ الہی پیدا ہوتی ہے اور یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کی رضا اور خوشخبری کی خاطر جھوک کارہنسے سے حاصل ہوتا ہے۔

روزے سے دناغی قریں بڑھتی ہیں:

جب صحت درست ہو تو دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے اور صحت کا انحصار معدہ کی درستی پر ہے جبکہ کھانے پینے کی پر سبزی معدہ کو درست رکھنے کی بنیاد ہے۔ لہذا روزے سے دماغی قوتوں میں خوب اخافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں روزہ براہ راست بھی دماغ پر اثر آتا ہز ہوتا ہے۔ بخار کا کہتا ہے کہ جب معدہ پُر ہو جائے تو دماغی قوتوں کام نہیں کریں اور جب معدہ خالی ہو تو کام جسمانی قوئی اپنا اپا کام شروع کر دیتے ہیں۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا :

”بِيَا بَنْيَى إِذَا أَمْلَأْتِ الْعُدُّوَّةَ نَأْمَتِ الْفِكْرَةَ وَخَرَسَتِ الْجِحْدَةَ فَتَعَدَّ مِنَ الْمُخَاهِرِ عَنِ الْعَدْلِ“  
کہ اے بیرے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو عقل و فکر کا مادہ سوچتا ہے، حکمت گونجی ہو جاتی ہے اور اعراض عبادت سے کترانے لگتے ہیں۔“

علام محمد بن عبدالرحمن بخاریؓ کہتے ہیں کہ :

پیٹ کے مناسب جھوک کارہنے سے کئی قسم کے حواس کی جھوک زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے سبز ہونے سے پنکھ، زبان، ہاتھ اور شرمنگاہ جھوک کے ہو جاتے ہیں۔ لہذا پیٹ کو مناسب جھوک کارکھا ہی بہتر ہے جو ان حواس کی سبزی کا باعث ہے۔

اور پیٹ کو مناسب جھوک کار رکھنے کے لئے روزے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں!

روزہ ایک دوسرے سے ہمدردی سکھاتا ہے:

جب جھوک ستائی ہے تو دل میں ان لوگوں کا حساس پیدا ہوتا ہے جو اکثر جھوک کر رہتے ہیں۔ روزہ کی دبیرے روزہ دار کے دل میں اپنے مسلمان جمایتوں کے لئے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث میں یہ حضرت سلیمان نارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ذکر ہے کہ :

”دُعُوكُ شَهْرِ الصِّبْرِ وَالصَّبْرِ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُؤْمِنَةِ دُشْرِيْنَاقِ الْمُؤْمِنِ“

(مشکوٰۃ، بحوالہ میہمی)

”رمضان صبر کا مہینہ ہے جس کا ثواب جنت ہے اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ایسا ندار کا رزق بڑھ جاتا ہے۔“

المغرب روزہ سے ہمیں دینی و دینیزی اور ابدی اور دنی ہر قسم کے فوائد دیں رکھ دیں۔ خدا کے ہم روزے اور رمضان کی تمام سعادتوں کو اپنے دامن میں سیٹ سکیں، آئین!